



## Noble Quran الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir) حضرت شاہ عبد القادر (اردو ترجمہ بمعہ عربی)

### سورة العلق بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

.1

پڑھ اپنے رب کے نام سے، جس نے بنایا۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

.2

بنایا آدمی لہو کی پھٹکی سے،

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

.3

پڑھ، اور تیرا رب بڑا کریم ہے۔

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

.4

جس نے علم سکھایا قلم سے۔

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

.5

سکھایا آدمی کو جو نہ جانتا تھا۔

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا

.6

کوئی نہیں (خبردار)! آدمی سرچڑھتا (سرکش ہو جاتا) ہے،

أَنْ تَرَاهُ اسْتَغْنَىٰ

.7

اس سے کہ دیکھے آپ (خود) کو محفوظ۔

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ

.8

بیشک تیرے رب کی طرف پھر (لوٹ کر) جانا ہے۔

أَمْ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُنْفَىٰ

.9

تو نے دیکھا وہ جو منع کرتا ہے،

عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ

.10

ایک بندے کو، جب نماز کرے (پڑھے)؟

أَمْ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ

.11

بھلا دیکھ تو اگر ہوتا (وہ بندہ) نیک راہ پر،

أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ

.12

یا سکھاتا ڈر کے کام۔

أَمْ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

.13

بھلا دیکھ تو! اگر جھٹلایا اور منہ موڑا،

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى

یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھتا ہے؟

.14

كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ

کوئی نہیں اگر باز نہ آئے گا۔ ہم گھسیٹیں گے چوٹی (پیشانی) پکڑ کر۔

.15

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ

کیسی چوٹی (پیشانی) جھوٹی گنہگار۔

.16

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ

اب بلائے اپنی مجلس (حامیوں کی) کو۔

.17

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ

ہم بلا تے ہیں پیادے (عذاب کے فرشتے) سیاست کرنے کو۔

.18

كَلَّا لَا تُطَعُّهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝

کوئی نہیں (خبردار)! نہ مان اس کا کہا، اور سجدہ کر، اور نزدیک ہو۔ (سجدہ)

.19

\*\*\*\*\*

© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com